

(v) Het up

(vi) The whole ball of wax

(vii) It's about time

(viii) Punch-up

Q.7. Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

لاہور شہر سیاست ہی نہیں ثقافت کا بھی قدیم مرکز ہے۔ مغلوں کی ثقافت نے عروج کا زمانہ اس شہر میں دیکھا۔ سکھ ثقافت کا بھی یہی مرکز تھا۔ علم و ادب کی ثقافت بھی اسی شہر کے حصہ میں آئی۔ اہل تصوف کا بھی یہی مرکز تھا۔ تصوف کی مشہور کتاب کشف المحجوب کے مصنف حضرت علی ہجویری المشہور حضرت داتا گنج بخش بھی اسی شہر میں مدفون ہیں۔ انگریزوں کے دور میں بھی لاہور کا فیشن پورے ہندوستان میں رائج ہوتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس شہر کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔

this city witnessed the rise of Mughal culture

Lahore is an ancient center of culture, as well as, politics. The Mughal culture also got rise of age in this city. ~~In fact,~~ ~~It~~ was also the center of the Sikh culture. The culture of literature also became part of this city. ~~Moreover,~~ it also became the center of Sufism. The writing of the famous book of Sufism 'Kashf-ul-Mehjoob' by Hazrat Aki Hafiz-e-Mashhoor Hazrat ~~Dale Gany~~ Balush is also buried in Lahore. ~~Furthermore,~~ the fashion of Lahore ~~was~~ also prevailed during the British empire in the sub-continent. ~~Hence,~~ the importance of this city did not decrease even after the inception of Pakistan.

why using more over furthermore infect???  
dont change the urdu context  
translate word to word

5/10